

Q.7. Translate the following into English by keeping in view any figurative /idiomatic expression. (10)

آجکل اس نفسانفسی کے دور میں ہر کوئی اپنا الو سیدھا کرتا ہے۔ کوئی کسی کی پروا نہیں کرتا۔ نہ کسی کے دل میں سچا پیار ہے نہ خلوص۔ اخلاقی اقدار زوال پذیر ہیں۔ ہم نہ صرف انسانوں سے مطلب پرستی برتتے ہیں بلکہ اپنے ملک سے بھی۔ کیا ہم سب نے مل کر کبھی سوچا ہے کہ اس ملک میں جہاں کبھی پیار کے شادیانے بجاتے تھے اب دہشت گردی کا سماں ہے۔ لیکن اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ اگر ہم پاکستان سے سچی محبت کریں اور اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہم خود ہی اپنی کئی خامیاں دور کر سکتے ہیں۔ ہم سب کل کے معمار ہیں۔ ہمیں فرقہ پرستی، غربت و امارت اور ادنیٰ و اعلیٰ کے فرق کو مٹا دینا چاہئے۔ ہمیں یک جان ہو کر اس ملک کا مستقبل سنوارنا ہے۔ دعا کریں کہ اس ملک و قوم کا ہر فرد متحد ہو کر اس ملک کی فکر کرنا شروع کر دے کیوں کہ زندہ ہے پاکستان تو ہم سب زندہ ہیں۔

Translation:

In these ^{times of individualism} everyone prioritizes ^{is busy in straightening their own} their self interests. No one cares for anybody. Neither their hearts have true love nor ^{compassion} are on the decline. Ethical values are subject to downfall. Not only we are selfish with individuals but also with our country. Have we ever thought that in this country, which was once filled with love, now terrorism prevails. However, it is not too late. If we truly love Pakistan and analyse ourselves, then we can rectify many of our flaws. We will build the future of tomorrow. We need should eliminate any discrimination of sectarianism, poverty & ^{Cruel} sickness and highborns or lowborns. We have to unite to give a better future to this country. Beg that all members of this country are unitedly concerned for it because we all exist when Pakistan exists.

need improvement

5/20

don't skip urdu words